

رمضان المبارک



رمضان

قرآن سمجھنے اور نیکیاں
کمانے کا بابرکت مہینہ



نفس کی تربیت کا
بہترین موقع


اسلام میں روزے کے فوائد پر ایک نظر۔۔۔۔۔


قرآن مجید میں روزے کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ





روزہ کیا ہے؟؟؟


روزہ فرض عبادت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(البقرہ: 183)

صوم کا لغوی مطلب = رک جانا ، اس چیز سے باز رہنا اور رک جانا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے۔
اسلام کے مطابق صبح سحری سے مغرب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے، جنسی تعلقات اور کچھ دوسرے معاملات سے رک جانا

صوم کیا ہے؟؟؟



روزہ کس لیے؟؟؟

روزے کا مقصد
نفس کی اصلاح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: 183)

تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دل کی وہ حالت ہے
جو نیکیوں پر ابھارے اور برائیوں سے دور رکھے

تقویٰ کیا ہے؟؟؟

التقویٰ ههنا التقویٰ ههنا التقویٰ ههنا

رسول اللہ ﷺ نے دل کی طرف اشارہ کر کے
تین مرتبہ فرمایا

تقویٰ

=

اللہ کا ڈر

+

اللہ کی محبت

روزے کی اہمیت

روزہ جہنم سے ایسے ہی
ڈھال ہے جیسے جنگ
میں تمہاری ڈھال ہوتی
ہے (متفق علیہ)

جس نے ایمان کے ساتھ اور
ثواب کی نیت سے روزے
رکھے اس کے گزشتہ گناہ
معاف کر دیئے جاتے ہیں بخاری

رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا

روزہ اور قرآن قیامت کے دن
بندے کے لئے سفارش
کرے گا (مسند احمد)

جب رمضان آتا ہے تو آسمان
کے دروازے کھول دیئے جاتے
ہیں اور جہنم کے دروازے بند
کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین
قید کر دیئے جاتے ہیں (متفق علیہ)

روزہ نہ رکھنے پر وعید

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کعب بن عجزہ فرماتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا میرا منبر لاؤ جب وہ لایا گیا تو آپ ﷺ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا "آمین" ، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا "آمین" ، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا "آمین" ، پھر جب آپ ﷺ منبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی ، آپ ﷺ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا "ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ مانگی تو میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس کے سامنے نبی ﷺ کا نام لیا جائے اور وہ آپ ﷺ پر درود نہ پڑھے تو میں نے کہا آمین پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو میں نے کہا آمین (رواہ الحاکم)

روزے کے فائدے

تقویٰ

ظاہری اصلاح

دوسروں سے محبت

ہمدردی کا جذبہ

حقوق کی ادائیگی کا احساس

دوسروں سے زیادتی کا ازالہ

معافی مانگنے کا احساس

معاف کرنے کا جذبہ

انفاق فی سبیل اللہ

باطنی اصلاح

اللہ تعالیٰ کا ڈر

نفس کا محاسبہ


صبر/برداشت

نظم و ضبط

احساس ذمہ داری

اطاعت کا جذبہ

نفس کی پاکیزگی



وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے مشتنی ہیں

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

(البقره: 185)

وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے ممتثنیٰ ہیں

دائمی بیمار جن کے لئے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو وہ
روزے کا فدیہ دے دیں۔

بچے جن پر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے۔

بڑی عمر کے لوگ جن کے لئے روزہ رکھنا مشقت اور نقصان دہ ہو وہ
بھی فدیہ ادا کر دیں۔

مجنون شخص کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا۔

وہ لوگ جو روزہ کی قضا دیں گے

مسافر

حائضہ یا نفاس والی عورت

حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت

بیمار

رمضان میں کرنے کے کام

قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رمضان میں جبرائیلؑ ہر رات
بنی ﷺ سے ملا کرتے اور آپ ﷺ رمضان گزرنے تک انہیں قرآن
مجید سناتے (متفق علیہ)

رمضان میں کرنے کے کام

قرآن اور روزہ ساتھ ساتھ

روزہ انسان میں ضبط نفس کی وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے احکامات پر عمل آسان ہوتا ہے

روزہ اس نعمت کا عملی ثبوت ہے

روزہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے

روزہ میں انسان ان نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرتا ہے (زبان کا استعمال)

روزہ میں انسان خود کو ان برائیوں سے بچاتا ہے

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کا ذریعہ ہے

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور انعام ہے

قرآن مجید انسان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرتا ہے

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا طریقہ بتاتا ہے

قرآن مجید ہمیں وہ برائیاں بتاتا ہے جن سے ہمیں بچنا ہے

رمضان میں کرنے کے کام

اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

- سبحان الله

- الحمد لله

- الله اكبر

- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

- لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد

رمضان میں کرنے کے کام

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کرنا
ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا
ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا

رمضان میں کرنے کے کام

استغفار کرنا

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
وَيُمِدِّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

نبی ﷺ دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے

رمضان میں کرنے کے کام

دعا کرنا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

نبی ﷺ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے

رمضان میں کرنے کے کام

صدقہ و خیرات

رات کا قیام

اعتکاف کرنا

عمرہ کرنا

وہ کام جن سے ہمیں بچنا ہے

جھوٹ

غیبت

بد گمانی

دوسروں کا دل دکھانا

● برائی اور فحاشی کے تمام کام

● لغو گفتگو

● لغویات دیکھنا

● وہ باتیں سننا جو لغومیں آتی
ہیں

روزہ اور گناہ۔۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے
تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے"
(بخاری)

جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ بات نہ کرے، نہ ہی لغوبات
کرے،

اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں
روزے سے ہوں۔

دعا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ
ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ
سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں

